

DEFTERDE YER ALAN BAŞLIKLAR

Atufetlu

Baası Tisyar

Devlet

Dil

Emir

Emr-i Ferman

Enmle

Esab-ı Zibi

İhtiram Tabirleri

İş'ar

Lakab

Lugatda Olmayan kelimeler

• Lûtf-ı Nisan

Mantuk

Manzur

Maruzat

Maruz-u

Muktezat-ı Celile

Nazar

eyan isimleri

Reside

Saib

Saye-i Ihsan

Seref

Tisgar

Tezkire

Saray

Türkiyeye giren ve girmekte olan Fransızca

ve yabancı kelimeler.

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 3E. 2442

ATUFETLU

عقودتہ اسم مکتوبہ

تفہیم ابجد اسم مکتوبہ

BAASI TISYAR

بعت نيا، قلعه اوله

هافلا ب کسه اوله

بعت = کسه، بید

نیا، Tenger کسه

DEVLET

دولت اقبال = ط م و مدلوله اید

تدریجی لغت : حیات عالم مقادیر
 اقدام : 8944 (1921)

ادریایا به دلی صلاص . محمد علی عین
 اقدام : 8879 4.12.1921

طیروزه و لایق خاتون دلی محمد الدین
 آغا ادلیقینہ حسنیہ قاسم تنقید ایچدرہ
 حسنیہ قاسم 28.6.69 صلیہ 8

لفظہ الکی محور د شہ سادہ لکھن اسزده
 لفظ تارعتہ درونی صلیب (حیف ۹۵) اکلاہ سف
 کدہ، کدہ سینه وارنہ، یادینہ سیات
 بقدر وقایع د اکلاہ یازہ فضا ابدال
 دیلاہ، یادینہ ہوئے اکلاہ صلیب دیلا
 قلم الکی اسکتہ (با ارادہ) و صلیب
 کلاہ قولا شمس لایم قلاہ صلیب دیلا

اوراد ارادہ سید

اورید پیر بلا

سید - پیر - مال

ارادہ سید - مال ارادہ

ارادہ علی - مال ارادہ

EMRI FER

اولیادہ اور وفاتہ سے لے کر اصلہ ۔

یوگا دار اول پینہ ک لے یوگہ مقامکہ عامہ دے ۔

یوگا دار اور = یوگہ الملک اور

وفاتہ = پیدروہ

سے صاحبہ سیک صاحبہ پتہ پینہ باغیہ ۔

سے بیہ صاحبہ سیک صاحبہ پتہ پینہ باغیہ ۔

کرکٹ پینہ ک لے ایچہ لام ک لے اولہ دیک

یوگہ مقامکہ عامہ دے ۔

EMRI-
FER

اور فحاشہ وقت نہ ملے اور نہ در:

یہاں دار کر کھ اولہ ویریلہ رہا ابیاسیہ
یہاں کرتے تھے بونگہ محضکہ ہمارے در۔

ENMILE

اغلہ ذیبہ اجمال اولہ

پارقدی سولہ روزہ یوم لنتہ اولہ

اغلہ = پارقدہ رجب

اجالہ = تقطیع = تمیل = بدہ لنتہ ، اولہ

زیبہ = سولہ

اغلہ پیرا ندیم و تقطیع اولہ

پیرا = سولہ

اغلہ و اولہ اولہ

اصابت تخیل = پار قادی سالی رت یوفیلکته
Esalni - zile - telecil

اصاب = اصبع = پار قادی

تخیل = یوفیلکته - یوفیلکته - آغی لام

زيب = س = زینت (zile)

DIL

HTIRAM

TABIRLERI

پادشاه محمد فاضل شاہ نے تحریر

* طرف مستجمع المجد والشرف حضرت شہید

روزنامہ پیدہ صدارت ۲۰۰۰ ۲۵.۹.۷۲

* طرف استرف حضرت پادشاہ

روزنامہ ۲۰۰۱

* طرف ذی شرف حضرت شہید

روزنامہ ۲۰۰۴

* ساجد موفقیقوایہ حضرت پادشاہ

روزنامہ ۲۰۰۶

* طرف مستجمع الشرف حضرت شہید

روزنامہ ۲۰۱۲

* ساجد موفقیقوایہ جناب پادشاہ

روزنامہ ۲۰۱۵

* ساجد موفقیقوایہ حضرت پادشاہ

روزنامہ ۲۰۱۶

* اعتدال افکار خیر نما پادشاہ

روزنامہ ۲۰۱۶

* وحدت بالکلمات حضرت پادشاہ

روزنامہ ۲۰۱۷

* وحدت مقننہ سلطنت سید

روزنامہ ۲۰۱۷

IHTIRAM

TABIRLERI

پارسی‌ها و فارس و ساسانیان

* او اراده‌ی غنا بقاوت حال و قدرت خلافتش
روزنامه 2069

* سبب کار و معایب و کجای و له و نفعیه
روزنامه 2070

* او اراده‌ی کرامت و کرامت و کرامت و کرامت
روزنامه 2070

* حاکمان حال و حال

روزنامه 2071

* و له و نفع و نفع و نفع و نفع و نفع و نفع
روزنامه 2067

* اراده‌ی سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب

روزنامه 2067

* جناب از سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب
و الا قانه ذات مقام اقتدار و قدرت و سبب و سبب

* مقاصد و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب

* حق و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب

* سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و سبب

~~DIL~~

فولانی

IHTIRAM TABIRLERİ

پادشاه صفا

* ذات جلاله کائنات حضرت پادشاه

روزنامہ 2024

* طرف استحضار حضرت خلافتیہ

روزنامہ 2025

* انوار مہر دین حضرت پادشاه

روزنامہ 2027

* ذات المہربانہ صفات پادشاه

روزنامہ 2034

* سایہ تہلیل توحید حضرت پادشاه

روزنامہ 2035

* ذات المہربانہ پادشاه

روزنامہ 2037

* حضرت امینہ سیدہ دہرہ یوسفیہ

ارادۃ احسان بقاء حضرت پادشاه

روزنامہ 2034

* حاکمیت حضرت پادشاه

روزنامہ 2030

* حضرت مولانا پادشاه نائیک شرف قبول اولیہ

روزنامہ 2040

* جنور صوفیہ لتفور حضرت پادشاه

روزنامہ 2067

İŞ'AR

اِسْمَاءُ وَاسْتِزَادَ بَدْرُ الدِّعَاءِ اَوْزَرَ

يَا زَيْدُكَ يَا بَيْتُكَ اسْتَقْدَكَ اَوْ بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ
يَا زَيْدُكَ يَا بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ
يَا زَيْدُكَ يَا بَيْتُكَ اسْتَقْدَكَ اَوْ بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ
يَا زَيْدُكَ يَا بَيْتُكَ اسْتَقْدَكَ اَوْ بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ

اِسْمَاءُ = يَا زَيْدُكَ اَوْ بَيْتُكَ

اِسْمَاءُ = اَوْ بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ اَوْ بَيْتُكَ
طَائِفَةُ

لفظ

دنيا و احاطه و مملکت اولاد

دولت = وزير و مير (پاک فتنه)

فنا متو = صدرا مملکت

ايريتو = اسک صدرا مملکت

دولت سی صد = شیخ الاسلامه

دولت مملکت = سکر - مهریه ناند میر و وزیر

دولت مملکت = دارالعارفیه اناربه

سیادت = شیعہ فتنه

فنا متو = سزاوار

مختار = ربه ثانیة : اعتبار شیعہ فتنه

بیگانه اولاد

حقایق

اصطلاح عامه

میرالام

میرالام

مختار

رویتو

Mithelli

میرینه

روحانیت

میرینه : انتم فتنه ملام

اولاد

نقد

ملفوظات = شفقت و ولعت صاحب

رتبه بالا

شهریه اولاد (ادامد) فستاده

دارس قراءت حکم، رتبه

(دولت ملفوظات) = شهریه اولاد، شهریه

وزیران، سرکار

ملفوظات : دولت، جودیت، شفقت صاحب

اب و حله رتبه لایه فطایه

fatiivvelin

DIL
KELIHA

LUGAT DA
OLMAYAN

لغت دار اوليا پنهان

باتالوفا صاريه (سن اقلد) 16.12.1872
پنجاب صاريه

الوان : صوانه صوبي . عفا

گروم پنهان : عفا

برده اوراد اديون : پنهان 1872 لن ريبلا اسم

هال خايع 1 ص 1 سده 2

20.12.1872 - 18.10.1289

پنهان = اديان صاريه صاريه

قونق قونق زر . پنهان پنهان . قونق قونق

پنهان پنهان

LÜTF

لطف نامه جناب چهار بنان شریف و مستحق

آنچه حکایت شده است احسان ابراهیم اطفاف صافی
ستند بکند که کور و در پیله

لطف نامه = احسان ابراهیم

جناب چهار بنان = حکایت شده است

ستند بکند که کور و در پیله

اطفاف صافی کور و در پیله

اطفاف صافی کور و در پیله

MANTUK

منطقه منيف = يدوم قالة

منطقه = قالة - موندوم

منيف = يوكه ، مال - بود

ارادة سینه منطقه جلیله بدقیقا

حنا ، هفت سینه يدوم اراده لینه قالة اوینده
ارلام -

MANZUR

فَنَظَرُ مَعَالِيَهُ فَوَدَّ بِأَرْسَالِهِ

بِأَرْسَالِهِ فَوَدَّ بِأَرْسَالِهِ

وَفَوَدَّ بِأَرْسَالِهِ

وَفَوَدَّ بِأَرْسَالِهِ

وَفَوَدَّ بِأَرْسَالِهِ

مردودات

a - بولک برفقار

b - حیدر حیدر بولک

بریلان اکر

مدرسہ چاکر کتب خانہ لکھنؤ -

1

a - یضاد

b - صراط

c - سبب صراط

1 - رسی یا زید رہ جو ذوات کہند یا کہ
فردینہ

2 - عی رسی اولاد کہ جو کہ یو یو کے یا زید
یضاد یا کہ

چاکر = بے ، قول ، کہ ، عید

مدرسہ = بیدار ذات صراط

کتب خانہ = حق ، عید

عاجز تو لکھ یو کہ فائدہ بیدار

چاکر = بیدار

بیدار عرصہ ایہ کلم درک

صارت مقادیر یا زید کہ حقہ فردینہ

MUK

مقتضی علی = بدو کنگ
بدو ایما

مقتضی = ختم کلمه

میل = ختم ، بدو کلمه

۵۷.۵
لغت بدو کلمه
مقتضی = ۵۷.۵

اولی = حال دولت علی = رتبه اول صفت
اول و اویند اوینده
رتبه و هائز فائز ایچو

NAZAR

نظر مقام اثر وقت پادشاه بیدار

پادشاه وقت پادشاه صاف در انجمن رند و هندو

وقت پادشاه وقت پادشاه

پادشاه

مقام : مکلف : حمت ، عزت ، کرم ، سخی

مکلف : کرم ، سخی ، پادشاه

OYUN İSİMLERİ DİL

Dokur cum

دوقور جم

Dokuz cum

طوقه جم

دوقوز ط / دوقوز ادید

RESIDE

سیدہ اعلیٰ تحیل

سیدہ دستگیر

Reside - i ennu - i teleal

سیدہ = بنتہ ، واصل اوطہ

اعلیٰ = پارہ اوچ

تحیل =

تکرم = بوہلہ ، بدھلہ

دست = ال

SAVB

صوبہ سات اصفہان

اصفہان کی دیگر شاخیں

صوبہ = طاب

سات = دیگر

اصفہان = شہر - مین

SAYE'İ İHSAN

سایه احسان نواحی حضرت مددگار

حکایت حضرت امین مهندس لطف بر
حضرت آیت الله

سایه : احسان ، نور و نور
سایه : خدا : خلیفه - الله کدک

احسان : لطف ، محبت ، با اعتماد
احسان نواحی : احسان انجمن سوله

مددگار : حکایت حضرت

سایه معارف وایه حضرت پادشاه :

پادشاه : حضرت شیخ صدرت سوره سوره

SEREF

I

شرف افزا = شرف ارتدیان - شرف ویرنه
شرف افزاء صدور = شرف ویرنه حقیقه

شرف عبا = شرف ویرنه
(عجمه)

شرف رساله = شرف بنی یرونه

شرف ریز = شرف دوله، لاف ویرنه، لاف صافیانه

شرف ساینج = شرف حقیقه (ارادول ایوه)

شرف سفوح = شرف قریه ده (ایوه)
حقیقه (اراده سیه)

شرف صادر = شرف حقیقه

II

SEREF

سرف صبر = سرف و صفا

سرف صبا = سرف و اعصاب

شرف رین سوغ هودور یوریا ن ابروفانه

شرف صا حار صا حار حینا

شرف هودور = شرف هبقانه شرف میدان ملک
شرف حامد اوله

شرف رین = (شرف دوله) = شرف وین

سوغ = صا حار سید قاروکتیه ارشیه

= صا حار امیر اوله

= کشته نده خلد رای

هودور = حینه حامد اوله میدان ملک

TES

تَیَارِ قَلَمِہ - کُندِریہ

تَیَارِہ - کُندِریہ

تذکرہ سببہ اصفاء لے

اوردہ لکھ صدر اعلیٰ قلمدہ یا سلا
یا زید اچھے قد سلا

اصف ک کہ قدہ کو سلا معاذتہ
اصف وارے دل لے یا زید

لے = بیکہ

تذکرہ سببہ = صدارت معاذتہ ہفتہ اولہ
اور نام و تذکرہ

اصف = اصف ہ عائد ، اصف یا باصف
کے

اصف = حضرت سلیمانہ افانہ و ویزید

دنیاء فکھ کچھ الہ بیوی الہ عادل ویزید

تذکرہ سببہ صدارت لے

بیکہ صدارت معاذتہ قد
یا زید

تذکرہ شمارے ترتیب اولیٰ

اسی تذکرہ شمارے ترتیب اولیٰ =
بد تذکرہ طبعیہ یا زلدی

شمارے = ترتیب طبعیہ

ترتیب = یا زلدی

ترتیب ملکہ = یا زلدی

تذکرہ شمارے ترتیب ابتداء اولیٰ

ابتداء = ترتیب اولیٰ ، یا زلدی

طبعیہ یونہی کہہ نہ یا زلدی کہہ حاصل اولیٰ
یا زلدی کہہ

SARAY

سای است مد

— کاتب = بر کاتب

قریه = قایمی
— قریه = بر کایمی

— قریه حضرت کتایب = قریه حضرت مد

قایم = ایستاده . وظیفه قلم ابد قلم
ایستاده مناجات قدوسه

— کاتب = قلم و خط مد قلم ایستاده

یاز شعله اداسه در صدر اعظم
«یصه تذکره» ایچ — کاتبه بازار — کاتب بد
یاز قلم ایستاده افلاک — قلم ایستاده اولاد
ازارکن ملایم — کاتب — یصه تذکره مسند
آلتنه — «اماره هاف» و «نیلان» و «دکن» اولاد
یا یا

محوه = پرستش امید و بولنه

مقام : معرفت = گریه : احوالست ویرد
سایه ناله . لغت و لغت

اصا غریب تبیل

ارزانه و اوینده

تولنه مقودر هفت پادشاه = یقین بدو پادشاه هفتد

هناپ جها خیالان = حکما به منسوب و منقله
شاهان

دولت = دنیا و افادہ مقام صاف

عقل = اندام = دماغ

مردودہ یا کلمہ لیدر = بدو کلمہ ایام کے

دل الاول در = اتر صافیت

(کلمہ اولہ)

امرفانہ دل الاول در = اتر صافیت

یا کلمہ

اکتفاء = پیشہ کنہ فارم، حقیقت
اکتفاء

یٹھا مال = یوگہ ہند

مبتا = عبادہ اولانہ ایٹو بلہ

مکتا = ترہیع و امتیاز اولانہ مالہ

مکتام = صلیب و طرہ ریختی اولانہ

مکتا = ادینہ

استیفاء = یلہ مکتا

مکتام = آیتہ بدینہ

کلمہ یا مپی مکتا مکتا لازم کلمہ یوگہ اولانہ

ویلہ یوگہ بقا مکتا مکتا وارا بہ یا مکتا

x سب سے پہلے پڑھنا : عذاب کا عذاب دیدہ =
یہ جو پارہ ہوتے ہیں اس کے ہر ایک
لطف و بے یوں ہر ایک کے ساتھ ہمارے لئے

۱
الحالہ ہذا : جس کے حالہ ، ہو کر نہ کہہ سکتے

سب سے عذاب البیاض و اسو : کہ اول ذات ہلان

افعال کلمات : عذاب میں اول ہر ایک

الرفحانہ ہفتہ سے لے کر اول :

x سب سے پہلے عذاب سے عذاب سے تقویت
تقویت سے عذاب سے عذاب سے باقی

x سب سے اول عذاب سے عذاب سے باقی

صوبہ : سندھ و پنجاب ، اوقاف و تعلقات

س : بیگم

اصناف : وزیرہ مناسبت و ایفوندارانہ

بندہ ۸۰ ، بندہ ۱۰۰ : تابع ، بندہ ۱۰۰
صوبہ سات اصناف

طریقہ : اردوستان دارانہ
تذکرہ : بہ : صدارت بقا بنہ حیاتہ اوسانہ
بقا بنہ : تعلقات اوسانہ = بندہ ۱۰۰
اوسانہ : سات : صدارت اوسانہ

بقا بنہ : سات
شیر : کدہ ۱۰۰ (ارسال)

طریقہ :
~~طریقہ : و حیدرہ - فقیر~~

~~دولت : وزیرانہ~~

حالیہ : دولت ، ایام تذکرہ فقیر

بقا بنہ : بی بی بیگم ، ایام
بقا بنہ : نعت ، ایام ، کدہ ، ایام
بقا بنہ : نعت ، طوایف

مفار - افافه اولنا

تفاوت - بارسته پائنه مانه پاره تر سکه
رها رکده

ترقم - مانه سه

اکتافان - ناپان عافان

استاد - برانته سینه هکتو سه

رسیده = ایرکته دست = آل
خیم =

رسیده دست تکیم =

فادالیا - بیانه ایدلمه کجه

وفو = فو قلمه بولله

معال = بید قلمک

مبیت = بولک

ملوما : هکی له بولک مانه

MEC 116A

Notisan meenal

19. 10. 1940

Türkece

Giriş

ve

Girişte olan

FRANSIZCA

ve yabancı kelimeler

A natiune

A ngrie

A ngrie de nord

Anarchie

Anarchiste

A

Amateur

A utolens

X O

A atom slide

X O

A multiplier

A nephew

A nephrite' atre

Agrandissement

Automation

①

A alternatif

A sphalte

A more use

Aucès

Accessoire

A mortissement

A cliff

Avance

A tide

Angel

Analyse

Accumulators

A cordeón

A myroule

A mature

Artiste	ادبیاتی - صوفی
Anonymous	مکتب
Acetone	ا-ت-ن- قادیانہ جلا جاتا ہے، صابون
Athlete	
Appartement	
Anc	صوفی، صوفی، صوفی، صوفی، صوفی
Autorité	①
Académie	
Aqueduc	
Académique	
Empire	
Avocat	
Aspirateur	
Addition	حساب (لغات عربی)
Amiral	
Ananas	
Avance	
Each jour	
Art nouveau	
Art	
Appareil	
Atome	

ALARME = ALARM

« Halkın alanlarda meclisi olarak
sığınaklara girmesini radyolar
ile eduyorduk » Sadıye Osmanoglu
Hayatının tatlı ve acı günleri (s. 77)

Antique = Antik

"Antik devrin İskenderiyeden sonra
dunyamin en lezzetli ve zengin kütüphane
nesi Bergama'da bulunuyordu", Prilli
mevzu no. 71 s. 12 Keshid i. Tunay

Agencia (it) - Acente

Agencia (-me) = Ajanı haka ueren yer
(A.A. ajansı).

agent (nm) = Ajan . (casus)

Base

Balerie

Baouque

Baricade

Bougie

Barone

Baronnesse

Barometre

Bitini

Bonne service

Brute

Béton

Béton armé

Barème

Bulletin

Bière

Brigette

Bijoux

Balcon

Bouquette

Ballon

Bicclète

Barre fixe

Bidon

Baton

Bourgeois

Bourgeoisie

Barrage

Bandage

Boche

Bochue

Basse

Baritone

Béton (le) = Beton

Béton armé (le) Betonarme

Bonlea (it.) = lionia
(mis T to x, si ti)

C

clarinette

costume

cancer

capite

chef

chef train

chef de ferre

conducteur

chef person

chantier

colonne

communisme
commune
chauteur
chant
contre - alto
cache cale
cache corset
corset
commission
cheminé
cargot
calistage
caisse
dore
coleria
chrysophrene
confetti
cotillon
casino
corniche
contacts
conte
comtesse

changeant
cristale
chocolat
cacao
calcare
croupier
cuvette
carbon
casquette
camion
camionnette
calice
cané
canales
chemin de fer
canton
contingent
canalisation
coiffeur
canapé
calorifère
chauffage
circulation

~ 2, 6

0, 6 - 0, 6

C

c éramique

Cinemascope

Cinema

cinque

clau

figure

Cigarette

Cliché

cocaïne

cognac

chaussée

chute

ایک سے زیادہ سواری
(یہ فارسی ہے نہ عربی)

charge

carte postale

carte

Cartone pierre

Carte visite

chapirographe

comédie

Contrôle

Caractère

Capitaine

coupon = kupon parça - küçük parça
mükemmel kağıt (S. Sami)

coupe = kupa, küçük bardak (S. Sami)
maddelerde genellikle verilen kupa

coupe' = kupa aralı, kapalı her
ceşit aralı (S. Sami)

copie = kopya, örneğini çıkarmak
aynı şekilde yazmak (S. Sami)

copier = kopya etmek (S. Sami)

colalt = kolalt (latince) maden

canepe (lat. conopseum) den : canepe

la LAVE - KAV (liodrum)

« Ben yalnız bir defa komşu ve dostla-
rının hissiyatına uyarak kava
içmişim » Sadıye Osmanoglu :
Hayatının Ace ve Talih günleri. (s. 77)

CARTÈ DE VIZIT (la) - KARTVİZİT

„Yahud lui kaurl dë vizit de l'era l'era
lui jery d'urumana Saffet Zuya
Adela Muresel s. 66 (eshi yaza)

D

Diaphragma

Delegué

Delegation

Danse

Danser

Dynamo

D

Dossier
Dégager
Directement
Démocratie
Démocrate
Démocratique
Dessert
Décor
Décoration
Docteur
Docent
Douche
Directe
Dactylo
Dentelle
Doctrine
Dérouillage
Dicheteur
Donner
Dépot
Doctorat
Dechenement

23

D

Directe - Direkt

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E.2442

E

Entele

E

263

Eponge

Elonite

Ecaille

Email

Emallé

Esquisse

Entre ligne

Echasse

Echarpe

Electrique

Eroine

Erosion

Escarpin

Epe

Esquime

Espril

Espagnolette

Etiquette

Eau gazeux

2015

Empereur

Etoile

Espion

Espionner

Faculté

Frêne

Franc Maçon

Fonction

Fentre

Fidel

فیدل

Fidel

فیدل

Frise

Fédération

Fer forgé

Frein

Forme

Formen

فورم

Festivale

Figurant

Financement

Fleurdel

Favorit


Frack

Fluorescent

Féodalité

K

1

Note (la) Noh 



Note = mel stunk
mel alush

PROPAGANDE (La) = PROPAGANDA

« Enmeni vukhatim öne sürerek
padışah aleyhine senelerce propaganda
yapan insaflar »,

Cevat Rifat Atilhan : 31 mart faian
(s. 190) (Aykurt Yayını 1969)

Postiche = Postij

ngali sac peruka . « Bir postij
topuy . » Pirelli say 73 , say ja 19

R

Rosette = Rozel

«Türk gazeteciliğini sembolize eden
rozetinin görünüşü» Tahir Kutsi Rahal
(s. 20 Parelli no 71)

SİYONİSTE = SİYONİST

"Siyonistler Sultan Abdulhamid'i
devirmek ve Filistin toprakları
üzerindeki emellerini gerçekleştirmek...."
Cevat Rifat Aulhan : 31 mart
Jurnal S. 60 (Aykurt Yayını 1969)

S

Symboliser = sembolize

"Türk gazeteciliğini sembolize eden
gazetinin görünüşü, eğildi de : Tahir Kutlu
Makal, Pirelli mecmuası no. 71 s. 20

(Lat. Symbolizare den)

Symbolizme = Sembolik

(Lat. symbolikos den)

Symbole = Sembol

(Lat. symbolum den)

T

Talilean (le) = Talilo

KESHUR MEZARLAD

نامہ مکاتیب : بدایہ
وہامہ : اسرار و ہوائے قدس : ایوب
اسم پروردگار : صفحہ ۷۷ صبا ۷۱

N
TARİH DÜŞMESİ

- ایرود متف پورهه محمد کمال ایله
نامه کمال مد غفر نامه
کتاب حاصل : نامه کمال مد 146

- سنده مرصه ادب قاردرت حمزه
نامه کماله دفات نامه
کتاب حاصل : نامه کمال مد 146
20. 11. 1304 Rums
2/12/1888 (Pazna)

قارا احمد اسىي ندره جهاى قىيون ارلان
مىلدان . قىء ابىدور . پىره لك قىيون
ضاء 71 ، قىف 26 . قىته 1

ققط پىي الله قى سىء اولده قارى
جها نى ارسلان قىله اسىء دىنى

ابوالفضل اسماء الحبيب خان اولاد موال

تاریخ و قایم دولت عالی
وقت و قاطعه : مستقیم زاده
تذکره : شفقت

مورالتاریخ (minuteman) فرمان زاده
مدینه التوزار زاده (ریلاور زاده می)
محمد حیدر عبدالرحمن زاده
تذکره : اسرار زاده
تذکره : فطیله
تاریخ شانه زاده

عشایه ادبیات : محمد زاده طاهر
مبایع ادبی : محمد زاده
بقلم ادبیات : رفیع زاده
مقالات تاریخی و ادبی : عبد شفیق